



سوال

نماز عشا کے بعد چار رکعات کی فضیلت

جواب

المحدث

اول:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر واپس آتے تو چار رکعات پڑھتے تھے، اس بات کا ذکر ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے، آپ کہتے ہیں کہ: "میں نے اپنی خالہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہما کے گھر میں رات گزارا، اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ہاں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشا کی نماز پڑھی اور اپنے گھر آکر چار رکعات پڑھیں، اور پھر سو گئے، پھر آپ بیدار ہوئے اور فرمانے لگے: (لڑکا سو گیا ہے) یا آپ نے اسی سے ملنا جلتا کوئی اور حملہ بولا، پھر آپ قیام اللیل کیلئے کھڑے ہو گئے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ رکعات ادا کیں اور پھر دو رکعت پڑھیں، اور پھر دوبارہ سو گئے، اتنی گہری نیند سونے کہ مجھے آپ کے خراٹے سنائی دینے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز کیلئے مسجد چلے گئے"

بخاری: (117)

بلکہ ایک حدیث۔ جس میں معمولی کمزوری ہے۔ کے مطابق عشا کی نماز کے بعد یہ چار رکعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشا کی نماز پڑھ کر میرے پاس آتے اور چار یا چھ رکعات ادا کرتے تھے" البوداود: (1303) نے اسے روایت کیا ہے لیکن البانی نے اسے ضعیف البوداود (الام) (2/57) میں ضعیف قرار دیا ہے۔

اسی طرح کی ایک حدیث عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے، آپ کہتے ہیں: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء سے فارغ ہو جاتے تو چار رکعات ادا کرتے اور پھر ایک تو پڑھتے، پھر اس کے بعد سو جاتے، اور پھر اٹھ کر رات کا قیام کرتے" امام احمد نے اسے مسند احمد (26/34) میں ذکر کیا ہے اور مؤسسہ رسالہ کے ماتحت مسند احمد پر کام کرنے محققین نے اسے منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے۔

چنانچہ عملی سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد چار رکعات پڑھا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ علمائے کرام کا عشا کی نماز کے بعد ان چار رکعات پر اتفاق ہے، چاہے ان چار رکعات کے بارے میں کوئی خاص حدیث ثابت ہے یا نہیں۔

حنفی فقہائے کرام نے عشا کے بعد کی ان چار رکعات کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، جیسے کہ "فتح القدر" (1/441-449) میں موجود ہے۔

لیکن بہتر یہی معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ کہ یہ چار رکعات مطلق نفل اور قیام اللیل میں شامل ہیں، ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اسے "المغنی" (2/96) میں "نفل نماز" سے موسوم کیا ہے۔

دوم:



عشاء کی نماز کے بعد چار رکعات کی فضیلت میں پانچ مرفوع احادیث اور دس آثار صحابہ و تابعین قولی یا عملی صورت میں وارد ہیں، اس بارے میں ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے "مصنف ابن ابی شیبہ" میں مستقل عنوان قائم کیا ہے: "باب ہے: عشاء کے بعد چار رکعات کے بارے میں" اسی طرح مروزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب: "قیام اللیل" میں خصوصی عنوان قائم کرتے ہوئے کہا ہے کہ: "باب ہے: عشاء کے بعد چار رکعات کے بارے میں" اسی طرح بیہقی نے "سنن الکبریٰ" میں عنوان قائم کرتے ہوئے کہا: "باب ہے اس شخص کے بارے میں جو عشاء کے بعد چار یا زیادہ رکعات پڑھے"، یہاں ہم یہ احادیث اور آثار ذکر کریں گے اور پھر ان پر مختصر گفتگو بھی کریں گے:

1- ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (جو شخص باجماعت عشاء کی نماز ادا کرے اور مسجد سے نکلنے سے پہلے چار رکعات ادا کرے تو یہ اس کیلئے لیلۃ القدر میں چار رکعات ادا کرنے کے برابر ہوں گی)

اسے طبرانی نے "المعجم الکبیر" (13-14 صفحہ: 130)، اور "المعجم الأوسط" (5/254) میں اس سند کے ساتھ ذکر کیا ہے: "حدثنا محمد بن الفضل السقظی، ثنا محمد بن حفص، ثنا إسحاق الأزرق، ثنا أبو حنیفہ، عن مجارب بن دھار، عن ابن عمر"

پھر امام طبرانی کی اسی سند سے ابو نعیم نے مسند ابو حنیفہ صفحہ: 223 میں اسے روایت کیا ہے۔

امام طبرانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: اس حدیث کو ابن عمر رضی اللہ عنہما سے صرف مجارب بن دھار بیان کرتے ہیں اور مجارب بن دھار سے صرف ابو حنیفہ بیان کرتے ہیں، اسے اکیلیے اسحاق بن ازرق روایت کرتے ہیں۔

عراقی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"اس سند میں کمزوری ہے" انتہی

"طرح التثريب" (4/162)

یثی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"اس کی سند میں ضعیف راوی ہے، جس پر جھوٹ بولنے کی تہمت نہیں" انتہی

"مجمع الزوائد" (2/40)

نیز ایک جگہ یہ بھی کہا کہ:

"اس کی سند میں ایک ایسا راوی ہے جو حدیث بیان کرنے میں ضعیف ہے" انتہی

"مجمع الزوائد" (2/231)

شیخ البانی رحمہ اللہ امام طبرانی رحمہ اللہ کی گفتگو "اسے اکیلیے اسحاق بن ازرق روایت کرتے ہیں" پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"اسحاق سے مراد ابن یوسف واسطی ہے؛ لیکن وہ ثقہ ہیں، لیکن ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ اس کی سند کے دیگر راوی بھی معتدب ہیں؛ کیونکہ اہل علم نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ضعیف قرار دیا ہے۔۔۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ضعیف ہونے کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے حافظ یثی نے حدیث کے بعد کہا: "اس کی سند میں ایک ایسا راوی ہے جو حدیث بیان کرنے میں ضعیف ہے" اور نام نہیں لیا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یثی رحمہ اللہ کے زمانے میں موجود معتصب احناف کے شر سے بچنے کیلئے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام کھلے لفظوں میں نہیں لیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمہ قسم کے تعصب اور متعصبین سے محفوظ رکھے!! اس حدیث کی سند میں سقظی کے علاوہ تمام راویوں کے حالات زندگی "التہذیب" میں موجود ہیں، جبکہ سقظی کے حالات زندگی "تاریخ بغداد" (3/153) میں موجود ہیں، چنانچہ خطیب بغدادی ان کے بارے میں کہتے ہیں: "آپ ثقہ تھے" نیز دارقطنی نے سقظی کا ذکر کر کے انہیں "صدوق" کہا ہے" انتہی مختصراً

"سلسلۃ الآحادیث الضعیفہ" (5060)



2- عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: (جو شخص عشا کی نماز کے بعد پہلی دو رکعتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھے جبکہ آخری دو رکعتوں میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک پڑھے تو یہ اس کیلئے لیلۃ القدر میں چار رکعت پڑھنے کے برابر لکھی جائیں گی) اسے مروزی نے "قیام اللیل" (ص/92) میں طبرانی نے "المعجم الکبیر" (11/437) میں اور بیہقی نے "السنن الکبریٰ" (2/671) میں روایت کیا ہے، سب کی سند "سعید بن ابی مریم، حدثنی عبد اللہ بن فروخ، حدثنی ابو فروة، عن سالم الأفلس، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس" ہے۔

اس کے بارے میں امام بیہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"اس روایت کو عبد اللہ بن فروخ مصری اکیلا بیان کرتا ہے"

نیز یہ سند ابو فروہ یزید بن سنان رہاوی کی وجہ سے ضعیف بھی ہے؛ علم حدیث کے ماہرین متفقہ طور پر اسے ضعیف کہتے ہیں۔ امام بیہقی بن معین کہتے ہیں: "لیس بشیء" یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

امام نسائی کہتے ہیں: "متروک الحدیث" یعنی اس کی احادیث کو چھوڑ دیا گیا تھا۔

امام ابن عدی کہتے ہیں: "عامۃ حدیثہ غیر محفوظ" اس کی اکثر احادیث محفوظ نہیں ہیں۔

مزید کیلئے دیکھیں: "تہذیب التہذیب" (11/336)

یہی وجہ ہے کہ: اس حدیث کو بیہقی رحمہ اللہ نے "مجمع الزوائد" (2/231) میں اور البانی رحمہ اللہ نے "سلسلہ احادیث ضعیفہ" میں حدیث نمبر: (5060) پر گفتمو کرتے ہوئے ضعیف قرار دیا ہے۔

3- انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (ظہر سے پہلے چار رکعات کا عشا کے بعد چار رکعات پڑھنے کے برابر ہیں، اور عشا کے بعد چار رکعات لیلۃ القدر میں چار رکعات پڑھنے کے برابر ہیں)

اس حدیث کو طبرانی نے "المعجم الأوسط" (3/141) اس سند سے بیان کیا ہے: "یحییٰ بن عقبہ بن ابی العیزار، عن محمد بن حماد" اس کے بعد کہا کہ: اس حدیث کو محمد بن حمادہ سے یحییٰ کے علاوہ کسی نے بیان نہیں کیا۔

لیکن یہ سند یحییٰ بن عقبہ بن ابو عمیر کی وجہ سے سخت ترین ضعیف ہے، اس کے بارے میں ابو حاتم کہتے ہیں: یہ احادیث گھڑتا تھا۔

امام بخاری کہتے ہیں: "یہ منکر الحدیث" ہے۔

ابن معین کہتے ہیں: "یہ کذاب اور نجیث ہے"

دیکھیں: "لسان المیزان" (8/464)

نیز بیہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"اس حدیث کی سند میں یحییٰ بن عقبہ بن ابو عمیر ہے اور وہ سخت ضعیف راوی ہے"

انتہی

"مجمع الزوائد" (2/230)

اسی طرح البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں:



"یہ روایت سخت ضعیف ہے" انتہی

"سلسلہ احادیث ضعیفہ" حدیث نمبر: (5058-2739)

4- براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (جو شخص ظہر سے قبل چار رکعات ادا کرے تو وہ ایسے ہی جیسے اس نے اس رات تہجد میں چار رکعات ادا کیں، اور جو شخص عشا کی نماز کے بعد چار رکعات ادا کرے تو وہ اس کیلئے ایسے ہی ہے جیسے اس نے لیلیۃ القدر میں چار رکعات ادا کیں، جس وقت کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملے اور وہ اس کے ہاتھ کو سلام کرتے ہوئے [پچھے دل سے تحامے، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کو بخش دیا جاتا ہے)

اس روایت کو طبرانی نے: "المعجم الأوسط" (6/254) میں اس سند سے بیان کیا ہے: "حدیثنا محمد بن علی الصانع، حدیثنا سعید بن منصور، حدیثنا ہض بن سالم الباہلی، حدیثنا عمار ابو ہاشم، عن الریح بن لوط، عن عمہ البراء بن عازب رضی اللہ عنہ"

اس روایت کو بیان کرنے کے بعد امام طبرانی کہتے ہیں:

اس حدیث کو ریح بن لوط سے صرف عمار ابو ہاشم ہی بیان کرتے ہیں، اورنا ہض بن سالم اسے بیان کرنے میں کیلئے ہیں۔

نیز بیہوشی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"اس کی سند میں ناہض بن سالم باہلی کے علاوہ بھی غیر معروف راوی ہیں مجھے ان کا تذکرہ نہیں ملا" انتہی
"مجمع الزوائد" (2/221)

اسی طرح البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"یہ روایت ضعیف ہے، ناہض بن سالم باہلی کا تذکرہ مجھے نہیں ملا، نیز اس حدیث کے بارے میں بیہوشی رحمہ اللہ کہتے ہیں: "اس کی سند میں ناہض بن سالم باہلی کے علاوہ بھی غیر معروف راوی ہیں مجھے ان کا تذکرہ نہیں ملا" اب یہاں ناہض کے علاوہ اور کون سا راوی ہے جس کا تذکرہ نہیں ملا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہا ہم ہو سکتا ہے کہ یہ بات طبرانی رحمہ اللہ کے استاد سے متعلق ہو؛ کیونکہ طبرانی نے اس کی سند بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ: "حدیثنا محمد بن علی الصانع، حدیثنا سعید بن منصور، حدیثنا ہض بن سالم الباہلی..."

لیکن بیہوشی رحمہ اللہ کی یہ عادت ہے کہ وہ طبرانی کے مجہول یا غیر معروف اساتذہ جن کا تذکرہ میزان وغیرہ میں نہ ہو ان کے بارے میں گفتگو نہیں فرماتے۔ واللہ اعلم" انتہی
"سلسلہ احادیث ضعیفہ" حدیث نمبر: (5053)

5- یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں: "نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا: ان دونوں سورتوں کی ہر ایک آیت دیگر سورتوں کی ستر آیت کے برابر ہے، اور جو کوئی انہیں عشا کے بعد پڑھے تو یہ پڑھنے والے کیلئے لیلیۃ القدر میں پڑھنے کے برابر ہوگی"

اس روایت کو امام عبد الرزاق نے "المصنف" (3/382) میں معمر بن راشد کے واسطے سے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا ہے، لیکن یہ روایت مرسل ہے، کیونکہ یحییٰ بن ابی کثیر چھوٹے تابعین میں شامل ہیں کیونکہ آپ کی وفات 132 ہجری میں ہوئی اب یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ روایت کس کے واسطے سے سنی ہے؟ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس طرح حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، دیکھیں: "تہذیب الکمال" (11/269)

سوم:

اس بارے میں صحابہ کرام اور تابعین سے مروی ہمارے درج ذیل ہیں:

1- عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: "جو شخص عشا کی نماز کے بعد چار رکعات ایک ہی سلام سے پڑھے تو یہ لیلیۃ القدر میں چار رکعات کا قیام کرنے کے برابر ہوگی"

اسے امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے "المصنف" (2/127) میں اس سند سے بیان کیا ہے: "حدیثنا وکیع، عن عبد الجبار بن عباس، عن قیس بن وہب، عن مرة، عن عبد اللہ" اور یہ سند متصل اور جید ہے۔



2- عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ: "جو شخص عشا کی نماز کے بعد چار رکعات پڑھے تو یہ لیلیۃ القدر میں چار رکعات کا قیام کرنے کے برابر ہوں گی"

اسے امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے "المصنف" (2/127) میں اس سند سے بیان کیا ہے: "حدیثنا ابن ادریس، عن حصین، عن مجاہد، عن عبداللہ بن عمرو"

اس سند کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ: اس کی سند کے تمام راوی ثقہ ہیں، لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا مجاہد نے عبداللہ بن عمرو بن حاص رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی ہے یا نہیں؟

تاہم بڑی جگہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: مجاہد نے ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہم سے روایت لی ہے، اور ایک موقف یہ بھی ہے کہ انہوں نے ان سے روایت نہیں لی۔

دیکھیں: "تہذیب التہذیب" (10/43)

3- عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ: "عشا کے بعد چار رکعات لیلیۃ القدر میں چار رکعات ادا کرنے کے برابر ہوتی ہیں"

اسے امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے "المصنف" (2/127) میں اس سند سے بیان کیا ہے: "حدیثنا محمد بن فضیل، عن العلاء بن المسیب، عن عبدالرحمن بن الاسود، عن ابيہ، عن عائشہ"

اس سند کے تمام راوی ثقہ ہیں، لیکن علاء بن مسیب کے ساتھ میں عبدالرحمن بن اسود کا تذکرہ ہمیں کہیں نہیں ملا۔

4- عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ: "جس شخص نے عشا کے بعد مسجد سے نکلنے سے پہلے چار رکعات ادا کیں تو وہ اس کیلئے لیلیۃ القدر میں چار رکعات ادا کرنے کے برابر ہوں گی"

اس حدیث کو محمد بن حسن شیبانی نے "الاکثار" (1/292) میں اپنے شیخ امام ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے اس کی بقیہ سندوں ہے: "حدیثنا الحارث بن زیاد و احوار بن حارث بن حارث۔ شک محمد بن حسن کی طرف سے ہے۔ عن ابن عمر"

یہ سند شک اور تردد پائے جانے کی وجہ سے ضعیف ہے، کیونکہ حارث بن زیاد کے حالات زندگی ہمیں کہیں نہیں ملے، تاہم حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"یہاں راوی کا نام یقینی طور پر حارث بن حارث بن حارث ہے، کیونکہ حارث بن زیاد کا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگردوں میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ملتا" انتہی
"الایثار بمعرفة رواية الآثار" (ص/57)

5- کعب بن ماع المعروف کعب الاجبار کہتے ہیں: "جس شخص نے عشا کے بعد چار رکعات اچھی طرح رکوع و سجود کے ساتھ ادا کیں تو وہ اس کیلئے لیلیۃ القدر میں چار رکعات ادا کرنے کے برابر ہوں گی"

یہ روایت کعب الاجبار سے متعدد سندوں سے مروی ہے، ہم طوالت کے خوف سے سب سندیں بیان نہیں کریں گے، تاہم انہیں بیان کرنے والوں میں ابن ابی شیبہ، امام نسائی، دارقطنی، اور بیہقی وغیرہ شامل ہیں۔

شیخ البانی رحمہ اللہ اس روایت کی ایک سند کے بارے میں کہتے ہیں:

"اس سند میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن یہ کعب الاجبار کا اپنا قول ہے، اگر وہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے تو یہ تب بھی دلیل نہیں بنتی تھی، کیونکہ پھر یہ حدیث مرسل ہوتی، تو موقوف حالت میں حجت کیسے بن سکتی ہے؟" انتہی

"سلسلہ احادیث ضعیفہ" (5053)

6- یسرہ اور زاذان کہتے ہیں کہ: "آپ ظہر سے پہلے چار رکعات ادا کرتے اور دو رکعات ظہر کے بعد، دو رکعات مغرب کے بعد، چار رکعات عشا کے بعد اور دو رکعات فجر سے پہلے"



یہ روایت مجھے اسی طرح صحابی کا نام ذکر کیے بغیر ملی ہے، لیکن قوی احتمال ہے کہ یہ علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، کیونکہ میسرہ علی رضی اللہ عنہ سے ہی روایات بیان کرتے ہیں۔

اسے امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے "المصنف" (2/19) میں اس سند سے بیان کیا ہے: "حدثنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب"

7- عبد الرحمن بن اسود کہتے ہیں کہ: "جس شخص نے عشا کے بعد چار رکعات ادا کیں تو وہ اس کیلئے لیلة القدر میں چار رکعات ادا کرنے کے برابر ہو جائے گی"

اسے امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے "المصنف" (2/19) میں اس سند سے بیان کیا ہے: "حدثنا الفضل بن دكين، عن بكير بن عامر، عن عبد الرحمن"

8- عمران بن خالد خزامی کہتے ہیں کہ: "میں عطاء کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ان کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا: "ابو محمد! عطاء کی کنیت [طاؤوس کا کننا ہے کہ: جس شخص نے عشا پڑھنے کے بعد دو رکعات ادا کیں اور پہلی میں سورہ سجدہ پڑھی اور دوسری میں سورۃ الملک تو وہ اس کیلئے لیلة القدر میں قیام کرنے کے برابر ہوں گی" عطاء کہنے لگے: طاؤوس نے صحیح کہا ہے، میں نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا"

اس واقعہ کو ابو نعیم نے "حلیۃ الأولیاء" (4/6) میں اس سند کے ساتھ بیان کیا ہے: "حدثنا عمر بن أحمد بن عمر القاضي، ثنا عبد اللہ بن زیدان، ثنا أحمد بن حازم، ثنا عمون بن سلام، ثنا جابر بن منصور، ثنا إسحاق بن منصور السلولی، عن عمران بن خالد"

9- قاسم بن ابوالیوب کہتے ہیں کہ: "سعید بن جبیر رحمہ اللہ عشا کی نماز کے بعد چار رکعات پڑھا کرتے تھے، جب میں ان سے گھر میں بات کرتا تو مجھ سے بات نہ کرتے"

اس روایت کو مروزی نے "تعظیم قدر الصلاة" (1/167) میں اس سند سے بیان کیا ہے: "حدثنا یحییٰ، ثنا عبد بن العوام، عن حصین، عن القاسم"

10- مجاہد کہتے ہیں: "عشا کے بعد چار رکعات لیلة القدر میں چار رکعات ادا کرنے کے برابر ہوتی ہیں"

اسے امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے "المصنف" (2/127) میں اس سند سے بیان کیا ہے: "حدثنا یحییٰ، عن الأعمش، عن مجاهد"

چہارم:

خلاصہ یہ ہوا کہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشا کی نماز کے بعد چار رکعات ادا کرنا ثابت ہے، تاہم ان چار رکعات کی فضیلت کے بارے میں تمام مرفوع روایات سخت قسم کی ضعیف ہیں، ان مرفوع روایات میں سب سے بہتر حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جو کہ وہ بھی ضعیف ہے۔

تاہم اس بارے میں صحابہ و تابعین کے آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلف صالحین ان پر عمل پیر تھے، بلکہ ان کے ہاں یہ چار رکعات مشہور بھی تھیں؛ کیونکہ یہ چار رکعات کتاب و سنت کے دسیوں دلائل سے ثابت قیام اللیل میں شامل ہیں۔

لیکن یہ کہنا کہ یہ چار رکعات لیلة القدر میں قیام کرنے کے برابر ہیں تو اس بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، چونکہ یہ فضیلت کعب الاحبار کی اپنی بات سے بھی منتقل ہے اس لیے اس بارے میں خاموشی اختیار کرنا زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ کعب الاحبار شرعی امور میں بہت زیادہ وسعت سے کام لیتے تھے اور اہل کتاب کی باتیں اس میں بیان کر جاتے تھے، تو اس لیے ہمیں خدشہ ہے کہ اس فضیلت کا اصل محور کعب الاحبار ہو۔

جن صحابہ کرام نے کعب الاحبار سے یہ فضیلت سنی تو صرف اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق ایسے فضائل اعمال سے ہے جن کے ثواب کی امید تو ہے لیکن عمل کرنے پر گناہ نہیں ہوگا، [کیونکہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صرف فضیلت ثابت نہیں ہے]



شیخ البانی رحمہ اللہ اس فضیلت کو "حکمی مرفوع" کا درجہ دینے کے قائل تھے، جس سے اس فضیلت کو اپنانے اور دلیل بنانے کی راہ نکلتی ہے، البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"یہ حدیث متعدد صحابہ کرام سے موقوف ثابت ہے۔۔۔ نیز امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے یہی عمل عائشہ، ابن مسعود، کعب بن ماتع، مجاہد، اور عبد الرحمن بن اسود سے نقل کیا ہے، - کعب کے علاوہ - ان تمام آثار کی سندیں صحیح ہیں اگرچہ یہ موقوف ہیں لیکن انہیں مرفوع حکمی کا درجہ حاصل ہے؛ کیونکہ ایسی بات ذاتی رائے کی بنا پر نہیں کہی جاسکتی" انتہی

"سلسلہ احادیث ضعیفہ" حدیث نمبر: (5060)

واللہ اعلم